

کٹنا

Cuts

کٹنا گہرے زخم، بدشکلی اور خوف کی وجہ ہو سکتا ہے!
Cuts can cause serious injury, disfigurement and scarring!



1. بلا ضرورت چاقو استعمال نہی کریں۔

Don't use a knife unless you have to.

2. ہمیشہ خود سے الگ کر کے کاٹیوں۔

Always cut away from you.

3. چاقوؤں کو حفاظت کے ساتھ مناسب جگہ پر رکھیں۔

Store knives securely in their proper areas.

4. چاقوؤں کو بیسن میں مت رکھیں۔

Do not put knives in the sink.

5. کاٹنے اور تراشنے کا کام تختہ پر کریں، ہاتھ میں ہرگز نہ کاٹیوں۔

Cut or chop on a board, never in your hand.

6. تیز چیزوں کو دھوتے وقت دستہ پکڑیں، اور برش کا استعمال کریں۔

Hold the handle and use a brush when washing sharp objects.

7. کام کے لئے مناسب چاقو کا استعمال کریں۔

Use the right knife for the job.

Name	Signature	Date	Name	Signature	Date

Doc No:
0752(Urdu)

آسان
تحفظ

